

عالمی وبا COVID-19 سے نبرد آزما ہونے کے لیے فارن ڈومیسٹک ہیلپرز، آجران اور ملازمتی ایجنسیوں

کے لیے ہدایت نامہ

فارن ڈومیسٹک ہیلپرز (FDHs)

- گروہی اجتماعات اور ماسک پہننے کے متعلق ضوابط پر عملدرآمد کریں
- آرام کے دنوں/تعطیلات پر گھر میں آرام کریں جس حد تک ممکن ہو۔ پُرجوم مقامات پر قیام (بشمول بورڈنگ سہولتی مقامات)، خوراک کی شراکت اور بیرون خانہ مل کر کھانا کھانے سے گریز کریں۔

FDH آجران

- سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور گھر پر سماجی میل جول سے گریز کریں جس حد تک ممکن ہو۔
- آرام کے دن کے انتظامات سے متعلق FDHs سے مکالمہ کریں۔
- ہمدردانہ رویہ رکھیں اور FDHs کی ضروریات کو سمجھیں۔

ملازمتی ایجنسیاں

- بورڈنگ سہولتی مقامات پر FDHs کے جمع ہونے کا انتظام نہ کریں۔
- سنٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کے ذاتی حفظان صحت کے جاری کردہ مشورہ برائے صحت کی اور سماجی فاصلے کی پابندی کریں، اور بورڈنگ کے سہولتی مقامات کو صاف رکھیں اور عمدہ ماحولیاتی حفاظت صحت کو برقرار رکھیں۔
- ان FDHs کا ایک رجسٹر پاس رکھیں جنہوں نے بورڈنگ سہولتی مقامات میں قیام کیا تھا تاکہ ممکنہ مصدقہ کیسز کے تعاقب کے لیے رابطہ کیا جا سکے۔
- بورڈنگ سہولتی مقامات میں قیام پذیر FDHs کو یاددہانی کروائیں کہ وہ ذاتی حفظان صحت پر توجہ دیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔

COVID-19 سے متعلقہ اپ ڈیٹس کے لیے، براہ مہربانی حکومت کی ذیل کی COVID-19 تھیمیٹک ویب

سائٹ ملاحظہ کریں (www.coronavirus.gov.hk)

اسد فاسار

24 گھنٹے۔ ہاٹ لائن (پرزتہ صرف "1823") :

2157 9537 (لائن ہاٹ کردہ مڈ تصدیق کے لیے پرزہ یہ سٹیکٹوم فارن)

ای میل : fdh-enquiry@labour.gov.hk

یاد کوادر لائن آن : www.fdh.labour.gov.hk